

Attempt questions

- 1 Clarks's method is used to remove the hardness of water .In this method which is used:
 a)Ca(HCO₃)₂ b) Na-Zeolite a)Ca(HCO₃)₂ b) Na-Zelite
 c) Ca-Zeolite d) Ca(OH)₂ c) Ca-Zeolite d) Ca(OH)₂
- 2 At which temperature water shows maximum density?
 a) 0 °C b)100 °C a) 0 °C b)100 °C
 c) 4 °C d)-4 °C c) 4 °C d)-4 °C
- 3 How many percent of water oceans contains?
 a)67% b)77% a)67% b)77%
 c)87% d)97% c)87% d)97%
- 4 Swimming pools are cleaned by process:
 a) Hydrogenation b) Bromination a) ہائیڈروجن (b) برومی نیشن
 c) Chlorination d) Nitration c) کلورینیشن (d) ناٹریشن
- 5 Rapid growth of algae in water bodies is because of detergent having:
 a) Carbonate salt b) Sulphonic acid a) کاربونیٹ سالٹ (b) سلفوکنک ایسٹ
 c) Sulphur salt d) Phosphate salt c) سلفر سالٹ (d) فاسفیٹ سالٹ
- 6 Which of the following ion does not cause hardness in water?
 a) Ca⁺² b)Mg⁺² a) Ca⁺² b)Mg⁺²
 c) SO₄⁻² d) Na⁺ c) SO₄⁻² d) Na⁺
- 7 Permanent hardness can be removed by using:
 a) Soda lime b) Sodium Zeolite a) سودا لائم (b) سوڈیم زیولائٹ
 c) Quick lime d) Lime water c) ان بھاچونا (d) چونے کا پتھر
- 8 Which gas is used to destroy harmful bacteria in water?
 a) Iodine b)Chlorine a) آئیودین (b) کلورین
 c) Flourine d) Bromine c) فلورین (d) برومین
- 1 کلارک میٹھڈ پانی کی ہارڈنیس کو دور کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس میٹھڈ میں استعمال ہوتا ہے ۔
- 2 کس تپریچ پر پانی کی ڈینسٹی زیادہ ہوتی ہے؟
- 3 دنیا کے کل پانی کا کتنے فی صد حصہ سمندری پانی پر مشتمل ہے۔
- 4 سوئنگ پول کو کس پروسی سے صاف کیا جاتا ہے؟
- 5 ڈیٹرجنٹ میں کس سائلس کی موجودگی کی وجہ سے پانی میں الجی کی گرو تھ تیز ہوتی ہے۔
- 6 ان میں سے کونسا آئن پانی کی ہارڈنیس کی وجہ نہیں بتا؟
- 7 مستقل ہارڈنیس کو کس کے استعمال سے ختم کیا جاسکتا ہے؟
- 8 پانی میں موجود نقصان دہ بیکٹریا کو ختم کرنے کے لیے کون سی گیس استعمال ہوتی ہے؟